



سوال

(21) بے نماز کے گھر سے کھانے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بے نماز کے گھر سے کھانے کا حکم کیا ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بے نماز کی بابت صحیح یہی ہے کہ بالکل کافر ہے۔ پس اس کے ساتھ کافروں کا سلوک چلیجیے۔ اور کفار کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ ان کے برتن بھی دھو کر برتتے۔ ہاں مجبوری کی حالت میں ان کے کھانے کا کوئی حرج نہیں۔ اور جن کے نزدیک بے نماز کافر نہیں۔ ان کے نزدیک فاجر و فاسق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ پس قابل نفرت ضرور ہے۔ اور جو لوگ ایسے فاجر و فاسقوں سے نفرت نہیں کرتے ان کا ایمان خطرہ میں ہے

وبالله التوفیق

فتاویٰ الہدیث

کتاب الصلوة، نماز کا بیان، ج 2 ص 48

محدث فتویٰ